

برائے فوری اجراء

## سٹی آف برامپٹن نے آٹو انشورینس کے منصفانہ ریٹس متعین کرنے کی حمایت شروع کر دی ہے

برامپٹن، آن (26 اپریل 2021) - چونکہ رہائشی آٹو انشورینس پر صوبے میں بلند ترین ریٹ ادا کر رہے ہیں اور ان میں روز بروز اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے، لہذا سٹی آف برامپٹن نے صوبائی حکومت سے گزارش کی ہے کہ اونٹیریو میں آٹو انشورینس کے ریٹس پر نظر ثانی اور اصلاحات لانے کے عمل میں تیزی لائی جائے۔

آج سٹی کونسل نے **FairDealForBrampton** #مہم کا آغاز کر دیا ہے تاکہ برامپٹن کے رہائشیوں کے لیے آٹو انشورینس کے منصفانہ ریٹس منظور کرانے کی حمایت کی جائے۔ آٹو انشورینس کسی بھی گھرانے کے اخراجات کا ایک بڑا حصہ ہوتے ہیں اور برامپٹن کے رہائشی اونٹیریو کے ایک اوسط ڈرائیور کے مقابلے میں 123 فیصد زیادہ ریٹس ادا کر رہے ہیں۔

برامپٹن کے ڈرائیوروں سے شہر کے پوسٹل کوڈز کے لحاظ سے مختلف ریٹس وصول کیے جا رہے ہیں، جن میں \$3,301 تک کے بلند ترین ریٹس بھی شامل ہیں، جو کہ صوبائی اوسط سے دوگنا زیادہ بنتے ہیں۔ رہائشیوں کو اب اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور سٹی کی

**FairDealForBrampton** #مہم کی درج ذیل طریقوں سے حمایت کرنی چاہیے:

- سٹی آف برامپٹن کی ویب سائٹ پر **آن لائن پیٹیشن** سائن کریں اور اپنے لوکل ممبر آف پارلیمنٹ (MPP) کو مخاطب کریں اور یہ بات ان کے علم میں لائیں کہ آپ ان سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ برامپٹن کے اس مسئلے کے حل میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ موصول ہونے والی تمام پیٹیشنز کو سٹی اکٹھا کر کے متعلقہ MPP تک پہنچانے گا۔
- اپنے پڑوسیوں، اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ **FairDealForBrampton** #مہم کے بارے میں **ٹویٹر**، **فیس بک** اور **انسٹاگرام** پر بات چیت کریں اور اس مہم کے حوالے سے تازہ ترین خبروں، کلیدی حقائق اور معلومات سے باخبر رہیں۔ مہم کے بارے میں مزید معلومات کے لیے برامپٹن کی ویب سائٹ **FairDealForBrampton** #ملاحظہ کریں، جس کے لیے **یہاں** پر کلک کریں۔

### اقتباسات

"کیونکہ برامپٹن اور پورے اونٹیریو کے خاندان کووڈ-19 کی عالمی وباء کی وجہ سے معاشی مشکلات کا شکار ہیں، لہذا حکومت کو آٹو انشورینس کے بڑھتے ہوئے ریٹس پر قابو پانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کرنی چاہیں۔ یہ تبدیلی کافی پہلے ہو جانی چاہیے تھی اور پوسٹل کوڈ کے لحاظ سے انشورینس ریٹس کے تعین کا امتیازی سلوک بند کیا جانا چاہیے۔ برامپٹن کے لوگ اکٹھے ہو کر ہی آٹو انشورینس کے آسمان سے باتیں کرتے ہوئے ریٹس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں اور ایک **FairDealForBrampton** #مہم حاصل کر سکتے ہیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن کے ڈرائیور بہت طویل عرصے سے پوسٹل کوڈ کے لحاظ سے سے باقی صوبے کے مقابلے میں آٹوموبائل انشورینس کی زیادہ قیمت ادا کر رہے ہیں۔ یہی وقت ہے کہ صوبائی حکومت پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق آٹوموبیل انشورینس کے ریٹس پر نظر ثانی کریں اور اصلاحات لائیں۔ یہی وقت ہے کہ ہم **FairDealForBrampton** #مہم حاصل کریں۔"

- گرہیٹ ڈھلون، ریجنل کونسلر وارڈز 9 اور 10، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ **ٹویٹر**، **فیس بک** اور **انسٹاگرام** پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

### میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال  
کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ  
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن  
سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)